

ایگزیکٹو آرڈر

البانی، برونکس، کولمبیا، گرین، ڈیلاویئر، ڈچس، کنگز، نساؤ، نیو یارک، اورنج، اوٹسیگو، پٹیم، کوینز، رچمنڈ، رینسیلر، راکلینڈ، شوباری، سکینیکٹیڈی، سافک، سولیوان، الستر، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹیوں اور ان سے ملحقہ کاؤنٹیوں میں قدرتی آفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا اعلان۔

جیکہ، 22 فروری 2026 سے شروع ہو کر اور اس کے بعد بھی جاری رہنے والے بارش اور گرج چمک کے نار ایسٹر طوفان سے البانی، برونکس، کولمبیا، گرین، ڈیلاویئر، ڈچس، کنگز، نساؤ، نیو یارک، اورنج، اوٹسیگو، پٹیم، کوینز، رینسیلر، رچمنڈ، راکلینڈ، شوباری، سکینیکٹیڈی، سافک، سولیوان، الستر، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹیوں اور ان سے ملحقہ کاؤنٹیوں میں عوامی ٹرانسپورٹ اور ذرائع آمد و رفت، یوٹیلیٹی سروس، صحت عامہ اور عوامی تحفظ کے نظاموں کے لیے ایسے خطرناک حالات پیدا ہونے کی توقع ہے جو فوری خطرے کا سبب بن سکتے ہیں؛

جیکہ، موسم سرما کے اس طوفان کے دوران بھاری اور شدید برفباری، تیز ہوائیں چلنے، اڑتی ہوئی اور جمع ہونے والی برف اور ساحلی علاقوں میں سیلاب آنے کی توقع ہے جس سے سڑکوں کی بندش، سفر میں رکاوٹ، وسیع پیمانے پر بجلی کی بندش، اور عوامی اور نجی املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو عوام کی صحت اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؛

چنانچہ، اب، میں، KATHY HOCHUL (کیتھی ہوکل)، ریاست نیو یارک کی گورنر، نیو یارک کی ریاست کے آئین اور ایگزیکٹو آرڈر کے آرٹیکل 2-B کے سیکشن 28 کے تحت خود کو تفویض کردہ اختیارات کی رو سے، یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی قدرتی آفت نازل ہونے جا رہی ہے جس سے متاثرہ مقامی حکومتیں مناسب طور پر نمٹنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ، میں البانی، برونکس، کولمبیا، گرین، ڈیلاویئر، ڈچس، کنگز، نساؤ، نیو یارک، اورنج، اوٹسیگو، پٹیم، کوینز، رچمنڈ، رینسیلر، راکلینڈ، شوباری، سکینیکٹیڈی، سافک، سولیوان، الستر، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹیوں اور ان سے ملحقہ کاؤنٹیوں میں 22 فروری، 2026 سے ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر 24 مارچ، 2026 تک نافذ العمل رہے گا؛ اور

مزید برآں، ایگزیکٹو قانون کے آرٹیکل 2-B کے سیکشن 29 کے تحت، میں ریاست کے جامع ہنگامی انتظامی منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر رہی ہوں اور 22 فروری 2026 سے ریاستی ایجنسیوں کو اور امریکی ریڈ کراس جیسے جیسے ضرورت پڑے یہ اختیار دیتی ہوں کہ وہ ریاستی املاک کی حفاظت کے لیے جو مناسب سمجھیں کارروائی کریں اور اس آفت سے نمٹنے اور اس سے بحال ہونے میں متاثرہ مقامی حکومتوں اور افراد کی مدد کریں، اور اسکے علاوہ وہ عوام الناس کی صحت اور تحفظ کے لیے حسب ضرورت اس طرح کی دیگر خدمات اور معاونتیں بھی فراہم کریں؛

مزید برآں، یہ اعلامیہ (b) 390.23 CFR 49 کے تقاضے پورے کرتا ہے، جو CFR 49 کے سیکشنز 395.2 اور 395.5 سے استثنیٰ فراہم کرتا ہے۔ وفاقی موٹر کیریئر کے اوقات کار کے قواعد سے ایسا استثنیٰ ضروری ہے تاکہ ریاست نیو یارک میں یوٹیلیٹی پاور بحال کرنے والے عملے کی آمد و رفت میں تیزی لائی جا سکے؛

مزید برآں، ایگزیکٹو قانون کے آرٹیکل 2-B کے سیکشن 29-a کے تحت کسی دستور، مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول، یا ضابطے، یا متذکرہ کے کسی حصوں کو اس صورت میں عارضی طور پر معطل یا تبدیل کرنے کی خاطر مجھے تفویض شدہ اختیار کے تحت، جو اس صورت میں، میں استعمال کر سکتی ہوں کہ جب اس دستور، مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول یا ضابطے کی تعمیل آفت کے سبب ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لازمی کارروائی کو روکتی ہو، اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو یا اس میں تاخیر کا باعث بنتی، میں اس انتظامی حکم نامے پر درج تاریخ سے 24 مارچ 2026 تک درج ذیل قوانین کو عارضی طور پر معطل کر رہی ہوں یا تبدیل کر رہی ہوں:

- ریاستی مالیاتی قانون (State Finance Law) کا سیکشن G97-، اس حد تک کہ جو خوراک، سپلائیز، خدمات، اور سازوسامان خریدنے یا متاثرہ مقامی حکومتوں، افراد، اور دیگر غیر ریاستی اداروں کو آفت زدہ ہنگامی صورت سے نمٹنے اور بحالی میں مدد دینے کی خاطر مختلف مرکزی خدمات بہم پہنچانے یا فراہم کرنے کے لیے ضروری ہو؛
- عمومی میونسپل قانون (General Municipal Law) کا آرٹیکل 5-A اس حد تک کہ جو نوٹس اور خریداری کے معیاری عمل کی پابندی کیے بغیر ساز و سامان، تعمیرات سمیت خدمات، اور دیگر ضروری سامان خریدنے کے لیے ضروری ہو؛

- ریاستی مالیاتی قانون کا سیکشن 112، ریاستی آئین کے آرٹیکل V، سیکشن I کے ساتھ مطابقت کی حد تک، اور ریاستی معاہدوں میں اضافی کام، جگہوں اور وقت شامل کرنے کے لیے ضروری حد تک؛
- ریاستی مالیاتی قانون کا سیکشن 163 اور معاشی ترقی کے قانون (Economic Development Law) کا آرٹیکل C4-، معیاری نوٹس اور خریداری کے عمل کی پیروی کیے بغیر اشیاء، خدمات، ٹیکنالوجی اور مواد کی خریداری کے لیے ضروری حد تک؛
- سرکاری عمارات کے قانون (Public Buildings Law) کا سیکشن 9 اور اقتصادی ترقی کے قانون کا آرٹیکل C4-، پندرہ لاکھ ڈالر سے زیادہ کے ہنگامی معاہدوں کے ایوارڈ کی اجازت کے لیے ضروری حد تک؛
- ہائی وے قانون (Highway Law) کا سیکشن 38(1)، (2) اور (3) جو ایمرجنسی ٹھیکے ایوارڈ کرنے کی منظوری کی حد تک ضروری ہو؛ اور
- گاڑی اور ٹریفک کے قانون (Vehicle and Traffic Law) کے سیکشنز 375، 385 اور 401 اس حد تک کہ جو دیگر دائرہ اختیار میں درست طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن، آلات اور طول و عرض کے تقاضوں سے استثنیٰ کے لیے ضروری ہے تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں اور تیاری کرنے میں معاونت کی جائے؛

مزید برآں، میں اس ایگزیکٹو آرڈر کی تاریخ سے لے کر 23 مارچ، 2026 تک مندرجہ ذیل قوانین میں عارضی طور پر ترمیم کر

رہی ہوں:

ایگزیکٹو قانون (Executive Law) کا سیکشن 24؛ ہائی وے قانون (Highway Law) کے سیکشنز 104 اور 346؛ گاڑیوں اور ٹریفک قانون (Vehicle and Traffic Law) کے سیکشنز 1602، 1630، 1640، 1650، اور 1660؛ نقل و حمل کے قانون (Transportation Law) کا سیکشن 14(16)؛ ویلیج قانون (Village Law) کے سیکشنز 6-602 اور 1706-17؛ جنرل سٹی قانون (General City Law) کا سیکشن 20(32)؛ سیکنڈ کلاس شہروں کے قانون (Second Class Cities Law) کا سیکشن 91؛ اور نیو یارک کوڈز، قواعد و ضوابط (New York Codes, Rules and Regulations) کے ٹائٹل 21 کا سیکشن 107.1 جو گورنر کو سڑکوں، شاہراہوں، اور گلیوں پر ٹریفک اور گاڑیوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کا اختیار دینے کے لیے ضروری ہے۔

مزید برآں، میں اب اس ایگزیکٹو آرڈر کی تاریخ سے لے کر 24 فروری، 2025 کے ایگزیکٹو قانون کے سیکشن i-259 کی ذیلی

شق (3) اور نیو یارک کوڈز، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ٹائٹل 9 کے سیکشنز 8004 اور 8005 کی قابل اطلاق دفعات کو عارضی طور پر معطل کرتی ہوں یا ان میں ترمیم کرتی ہوں، جبکہ یہ عمل پیروں کی منسوخی کے عمل سے متعلق سماعتوں کی تکمیل کے حوالے سے اس اثر کے ساتھ ہوگا کہ تمام مدتوں میں سات (7) دنوں کے لیے توسیع کر دی جائے۔

میرے دستخط اور ریاست کی مجاز مہر کے ساتھ، البانی شہر میں اس فروری کی 21 ویں تاریخ کو سن دو ہزار چھبیس میں جاری کیا گیا۔

منجانب گورنر

سیکرٹری گورنر